

# Psa

## Chapter 103

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	אֱלֹהֵינוּ	בְּרַכְתֵּנוּ	גַּפְשֵׁנוּ	אֶת־	יְהוָה	וְכָל־	קָרְבֵינוּ	אֶת־	שֵׁם
	داؤد کے لیے	برکت دے	میری جان	کو	خداوند	اور جو کچھ	میرے اندر میں	کو	نام کو
	<a href="#">H1732</a>	<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7130</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8034</a>

کدو:

اس کے قدوس کے  
[H6944](#)

کرے احمد کی نام قدوس کے اُس ریشہ و رگ میرا کر! ستائش کی رب جان، میری اے زیور۔ کا داؤد

2	בְּרַכְתֵּנוּ	גַּפְשֵׁנוּ	אֶת־	יְהוָה	וְאֵל־	הַשָּׁמַיִם	כָּל־	זְמוּנֵינוּ:
	برکت دے	میری جان	کو	خداوند	اور نہ	بھول	سب	اس کے احسانوں کو
	<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H7911</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1576</a>

جانہ بھول اُسے بے کیا لئے تیرے نے اُس کچھ جو اور کر ستائش کی رب جان، میری اے

3	הַסֵּלֶחַ	לְכָל־	עוֹנֵינוּ	הַרְפֵּא	לְכָל־	תַּחֲלָאֵינוּ:
	معاف کرنے والا	سب	تیرے گناہوں کو	شفا دینے والا	سب	تیری بیماریوں کو
	<a href="#">H5545</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H7495</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8463</a>

بے دیتا شفا سے بیماریوں تمام تجھے کرتا، معاف کو گناہوں تمام تیرے وہ کیونکہ

4	הַנּוֹאֵל	מִשַּׁחַת	חַיֵּינוּ	הַמְעַטְרֵנוּ	חֶסֶד	וְרַחֲמֵינוּ:
	چھڑانے والا	گڑھے سے	تیری زندگی کو	تاج پہنانے والا	شفقت اور	رحمتوں کا
	<a href="#">H7845</a>					

بے کرتا آراستہ سے تاج کے رحمت اور شفقت اپنی کو سر تیرے لیتا، چھڑا سے گڑھے کے موت کو جان تیری کر دے عوضانہ وہ

5	הַמְשִׁבֵּעַ	בְּטוֹב	עֲדֵינוּ	תַּחֲדָשׁ	כְּנֶשֶׁר	נְעוּרֵינוּ:
	سیر کرنے والا	بھلائی سے	تیرے زیور کو	نئی ہوگی	عقاب کی طرح	تیری جوانی
	<a href="#">H7646</a>		<a href="#">H5716</a>	<a href="#">H2318</a>	<a href="#">H5404</a>	

بے پاتا تقویت سی کی عقاب کر بو جوان دوبارہ تو اور ہے، کرتا سیر سے چیزوں اچھی کو زندگی تیری وہ

6	עֲשָׂה	צְדָקוֹת	יְהוָה	וּמְשַׁפְּטִים	לְכָל־	עֲשׂוּקֵינוּ:
	کرنے والا	راستبازی	خداوند	اور انصاف	سب	ظلم کے ماروں کے لیے
	<a href="#">H6666</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H6231</a>

بے کرتا قائم انصاف اور راستی لئے کے مظلوموں تمام رب

7	יֹדֵיעַ	דְּרָכָיו	לְמוֹשֶׁה	לְבָנֵי	יִשְׂרָאֵל	עַל־קוֹתָיו:
	ظاہر کیا	اپنے راستے	موسیٰ کو	بیٹوں کو	اسرائیل کے	اپنے کام
	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H4872</a>		<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H5949</a>

کے ظاہر پر اسرائیلیوں کام عظیم اپنے اور پر موسیٰ راہیں اپنی نے اُس

8	רַחֵם	וְחַנּוּן	יְהוָה	אָרַךְ	אֲפִים	וְרַב־	חֶסֶד:
	رحم کرنے والا	اور مہربان	خداوند	غضب میں دیر	کرنے والا	اور بہت	شفقت
	<a href="#">H7349</a>	<a href="#">H2587</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0750</a>	<a href="#">H0639</a>		

بے بھرپور سے شفقت اور تحمل وہ ہے، مہربان اور رحیم رب

9	لَا- نہیں۔	لِنِيح تک	يَرِيح لڑے گا	وَلَا اور نہیں	لَعُولَم بمیشہ تک	يُتَوَر: غصہ رکھے گا
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5331</a>	<a href="#">H7378</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H5201</a>

گا۔ رہے ناراض تک ابد نہ گا، رہے ڈانٹتا ہمیشہ وہ نہ

10	لَا- نہیں	بَحْمَانِي ہمارے گناہوں کے	عِشَا کیا	لָנו ہمارے ساتھ	وَلَا اور نہیں	כְּעֹנְתֵינוּ ہماری بدکاریوں کے	נִמְלָ دیا	עֲלֵינוּ: ہمیں
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2399</a>			<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H1580</a>	

ہے۔ دیتا اجر مناسب کا گناہوں ہمارے نہ دیتا، سزا مطابق کے خطاؤں ہماری وہ نہ

11	כִּי کیونکہ	כְּגִבְהַ جیسا بلند	שָׁמַיִם آسمان	עַל- سے	הָאָרֶץ زمین کے	נֶבֶר غالب ہے	חֶסְדֹו اس کی شفقت	עַל- سے	יְרָאיו: اس سے ڈرنے والوں پر
		<a href="#">H1361</a>	<a href="#">H8064</a>		<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1396</a>			<a href="#">H3373</a>

ہیں۔ مانتے خوف کا اُس جو ہے پر اُن شفقت کی اُس عظیم ہی اُنتی ہے، آسمان بلند جتنا کیونکہ

12	כְּרַחֵק جیسے دور	מִמִּזְרַח مشرق	מִמַּגְרֵב مغرب سے	הִרְחִיק دور کیا	מִמֵּנוּ ہم سے	אֶת- کو	כְּשָׁעֵינוּ: ہمارے گناہوں کے
	<a href="#">H7368</a>	<a href="#">H4217</a>	<a href="#">H4628</a>	<a href="#">H7368</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H6588</a>

ہیں۔ دیتے کر دُور سے ہم قصور ہمارے نہ اُس ہی اُتنا ہے سے مغرب مشرق دُور جتنی

13	כְּרַחֵם جیسا ترس کھاتا ہے	אָב باپ	עַל- پر	בָּנָיִם بیٹوں	רַחֵם ترس کھاتا ہے	יְהוָה خداوند	עַל- پر	יְרָאיו: اس سے ڈرنے والوں
	<a href="#">H7355</a>	<a href="#">H0001</a>			<a href="#">H7355</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H3373</a>

ہیں۔ مانتے خوف کا اُس جو ہے کھاتا ترس پر اُن رب طرح اُسی ہے کھاتا ترس پر بچوں اپنے باپ طرح جس

14	כִּי- کیونکہ	הוּא وہ	יָדַע جانتا ہے	יִצְרָנוּ ہماری سرشت کو	זְכוֹר یاد	כִּי- کہ	עָפָר مٹی	אֲנַחְנוּ: ہم ہیں
		<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H3336</a>	<a href="#">H2142</a>		<a href="#">H6083</a>	<a href="#">H0587</a>

ہیں۔ بی خاک ہم کہ ہے یاد اُسے ہے، جانتا ساخت ہماری وہ کیونکہ

15	אֲנוֹשׁ انسان	כְּחַצִיר گھاس کی طرح	יָמָיו اس کے دن	כְּצִיץ جیسا پھول	הַשָּׂדֶה کھیت کا	כִּן ایسے	יִצְיִץ: کھلتا ہے
	<a href="#">H0582</a>		<a href="#">H3117</a>				

ہے۔ پھولتا پھلتا ہی طرح کی پھول جنگلی وہ اور ہیں، مانند کی گھاس دن کے انسان

16	כִּי کیونکہ	רִיחַ بوا	עֲבָרָה- گزر گئی	כּוֹ اس سے	וְאֵינָנוּ اور وہ نہیں	וְלֹא- اور نہیں	יִכִּירוּנוּ پہچانے گی	עוֹד مزید	מִקּוֹמוֹ: اس کی جگہ
		<a href="#">H7307</a>			<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H4725</a>	

چلتا۔ نہیں پتا بھی کا نشان و نام کے اُس اور رہتا، نہیں وہ تو گزرے ہوا سے پر اُس جب

17	וְחֶסֶד لیکن شفقت	וְיְהוָה خداوند کی	מֵעוֹלָם ازل سے	וְעַד- اور تک	עוֹלָם ابد	עַל- پر	יְרָאיו: اس سے ڈرنے والوں	אֲבִדְקָתוֹ اور اس کی راستبازی
		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H5769</a>		<a href="#">H3373</a>	<a href="#">H6666</a>

لְבָנֵי  
بیٹوں کے لیے

گا۔ کرے ظاہر بھی پر نواسوں اور پوتوں کے اُن راستی اپنی وہ گا، کرے مہربانی تک ہمیشہ وہ پر اُن مانیں خوف کا رب جو لیکن

18	לְשׂוֹמְרֵי رکھنے والوں کے لیے	בְּרִיתוֹ اس کے عہد کو	וְלֹא־כִרִי اور یاد کرنے والوں کے لیے	פְּקָדָיו اس کے احکاموں کو	לְעֹשֵׂוֹתָם: کرنے کے لیے
	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H2142</a>	<a href="#">H6490</a>	

کریں۔ عمل پر احکام کے اُس سے دھیان اور گزاریں زندگی مطابق کے عہد کے اُس وہ کہ ہے یہ شرط

19	יְהוָה خداوند نے	בְּשָׁמַיִם آسمان میں	הֵכִין قائم کیا	כִּסְאוֹ اپنے تخت کو	וְמַלְכוּתוֹ اور اس کی بادشاہی	בְּכֹל سب پر	מִשְׁלָחַ: حکمرانی کرتی ہے
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H3678</a>	<a href="#">H4438</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4910</a>	

ہے۔ کرتی حکومت پر سب بادشاہی کی اُس اور ہے، کیا قائم تخت اپنا پر آسمان نے رب

20	בְּרָכוֹ برکت دو	יְהוָה خداوند کو	מִלְאָכָיו اس کے فرشتوں	נִבְרִי طاقتور	בָּח قوت میں	עֲשִׂי کرنے والے	דְּבָרוֹ اس کے کلام کو	לְשִׁמּוֹעַ سننے کے لیے	בְּקוֹל آواز کو
	<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4397</a>	<a href="#">H1368</a>			<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H8085</a>	

דְּבָרוֹ:  
اس کے کلام کی  
[H1697](#)

کرو! ستائش کی رب جائے، مانا کلام کا اُس تاکہ ہو کرتے پورے فرمان کے اُس جو سورماؤ، ور طاقت کے اُس فرشتوں، کے رب اے

21	בְּרָכוֹ برکت دو	יְהוָה خداوند کو	כָּל- سب	צְבָאָיו اس کے لشکرو	מְשָׁרְתָיו اس کے خادمو	עֲשִׂי کرنے والے	רְצוֹנוֹ: اس کی مرضی کو
	<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8334</a>			<a href="#">H7522</a>

کرو! ستائش کی رب ہو، کرتے پوری مرضی کی اُس اور ہو خادم کے اُس جو سب تم لشکرو، تمام اے

22	בְּרָכוֹ برکت دو	יְהוָה خداوند کو	כָּל- سب	מַעֲשָׂיו اس کے کامو	בְּכָל- سب	מְקוֹמוֹת مقاموں میں	מְנַשְׁלָתוֹ اس کی حکومت کے	בְּרָכָי برکت دے	נִבְרִי میری جان
	<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4725</a>	<a href="#">H4475</a>	<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H5315</a>

אֵת- יְהוָה:  
کو-  
خداوند  
[H3068](#) [H0853](#)

کرو! ستائش کی رب جان، میری اے کرو۔ تمجید کی اُس پر جگہ ہر کی سلطنت کی اُس کرو! ستائش کی رب بنایا، نے اُس جنہیں سب تم